



## الْغَشِيَّةُ

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

کیا پہنچی ہے تکو خبر ڈھانپ لینے والی  
(قیامت کی)۔

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ<sup>ط</sup>

بہت سے چہرے اس روز ہوں گے خوفزدہ۔

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ<sup>ط</sup>

سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے۔

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ<sup>ط</sup>

داخل ہوں گے آگ میں دہکتی ہوئی۔

تَصَلِي نَارًا حَامِيَةً<sup>ط</sup>

پلایا جانے گا انکو ایک کھولتے ہوئے چشمے  
سے۔

تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ اِنِيَّةٍ<sup>ط</sup>

نہیں ہو گا انکے لئے کوئی کھانا سوائے ایک  
سخت خاردار جھاڑی کے۔

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ<sup>ط</sup>

لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ٧

نہ جو مفید غذا بنے اور نہ کام آنے بھوک میں۔

وَجُودُهُ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ ٨

بہت سے پھرے اس روز ہوں گے شادمان۔

لَسَعِيهَا رَاضِيَةٌ ٩

اپنی محنت کے بدلے راضی۔

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ١٠

بہشت بریں میں۔

لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ١١

نہیں سنیں گے وہاں کسی طرح کی لغو بات۔

فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ١٢

اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے۔

فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ١٣

وہاں تخت ہوں گے اونچے اونچے۔

وَأَكْوَابُ مَوْضُوعَةٌ ١٤

اور کھڑے قرینے سے رکھے ہونے۔

وَأَنْهَارٌ مَصْفُوفَةٌ ١٥

اور گاؤتیکے قطار در قطار لگے ہونے۔

وَأَزْوَاجٌ مَبْتُوثَةٌ ١٦

اور نفسیں مسندیں جگہ جگہ بچھی ہوئی۔

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْآبِلِ كَيْفَ

تو کیا نہیں یہ دیکھتے اونٹوں کی طرف کہ کیسے

وقفہ



خُلِقَتْ

(عجیب) پیدا کئے گئے ہیں۔

وقفہ



وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ

اور آسمان کی طرف کہ کیسا بلند کیا گیا ہے۔

وقفہ



وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ

اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے جانے گئے ہیں۔

وقفہ



وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

اور زمین کی طرف کہ کیسے بچھائی گئی ہے۔

ط



فَذَكِّرْ<sup>ط</sup> إِمَّا أَنْتَ مُذَكِّرٌ<sup>ط</sup>

پس (اے نبی ﷺ) تم تو نصیحت کرتے  
رہو۔ بس تم تو نصیحت کرنے والے ہی ہو۔

لا



لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ<sup>س</sup>

تم نہیں ہو ان پر داروغہ۔

لا



إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ<sup>لا</sup>

مگر جس نے منہ پھیرا اور انکار کیا۔

ط



فَيَعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ<sup>ط</sup>

تو عذاب دے گا اسکو اللہ عذاب بہت بڑا۔

لا



إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ<sup>لا</sup>

بیشک ہمارے ہی پاس انکو لوٹ کر آنا ہے۔

ع



ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ<sup>ع</sup>

پھر بیشک ہمارے ہی ذمے ان سے حساب  
لینا ہے۔

